

زرگسی کوفتے

- (۱) گوشت: آدھا کیلو (بون لیس) بکرا/ بیف
- (۲) چنارال: آدھا کپ
- (۳) لال مرچ پاوڈر: دوٹی اسپون
- (۴) گرم مسالہ: ایک ٹی اسپون (پسا ہوا)
- (۵) بلدی پاوڈر: آدھائی اسپون
- (۶) ہرا دھنیہ: آدھا کپ
- (۷) لہسن ادراک پیسٹ، ایک ٹیمبل اسپون
- (۸) کباب چینی: چار سے پانچ عدد
- (۹) لیموں: ایک عدد

☆